

ابواب المصائب

رٹائی ادب کے خدمت گزاروں میں اس وقت ڈاکٹر تقی عابدی کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اس سلسلے میں کئی کتابیں بری آب و تاب کے ساتھ شائع کر چکے ہیں اور ابھی کئی کتابیں تیاری کے مراحل میں ہیں۔ ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ یہ ہے کہ وہ مرزا دبیر کا تمام کلام نظم و نثر مرتب کر کے شائع کر رہے ہیں۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے:

- ۱۔ ”سلک سلام و دبیر“ (سلاموں کا کلیات)
- ۲۔ ”طالع مہر“ (بے نقط کلام)
- ۳۔ ”مجتہد نظم مرزا دبیر“
- ۴۔ ”مشنویات دبیر“
- ۵۔ ”ابواب المصائب“
- ۶۔ ”مصحف فارسی“

یہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس وقت وہ مرزا دبیر کی جملہ رباعیوں کی جمع آوری کے کام میں مصروف ہیں جس میں ہر رباعی کا تنقیدی تجزیہ بھی ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اس کے بعد انشاء اللہ مرزا دبیر کا کلیات مرانی آئے گا۔

مرزا دبیر کا بیشتر کلام ”دفتر ماتم“ کی جلدوں میں شائع ہوا تھا لیکن یہ جلدیں بہت کم یاب اور بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تقی عابدی صاحب نے ان جلدوں میں شامل کلام کے علاوہ مرزا صاحب کا غیر مطبوعہ کلام اور دوسری جگہوں سے شائع ہونے والا کلام بھی یکجا کر لیا ہے۔ اس طرح ان کے ہاتھوں مرزا صاحب کا حق ادا ہو رہا ہے۔

”ابواب المصائب“ مرزا صاحب کی نثری تصنیف ہے جس میں قرآن مجید کے ”احسن القصص“ یعنی قصہ حضرت یوسف کو امام حسین علیہ السلام کے حالات سے ربط دیا ہے اور قصہ یوسف اور واقعہ کربلا میں مماثلتیں تلاش کی ہیں، یہ کتاب مرزا صاحب نے ۱۲۳۵ھ میں لکھی۔ اس کی نثر بہت سادہ و سلیس ہے اور نثر کی تاریخ میں ”ابواب المصائب“ کا نام بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ کتاب مرزا رجب علی بیگ سرور کی ”فسانہ عجائب“ کے صرف پانچ برس بعد تصنیف ہوئی ہے اور لکھنؤ میں اردو نثر کے ارتقا کی ایک اہم کڑی ہے۔

”ابواب المصائب“ میں نثر کو جاہِ جانظم سے تزئین دی گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں مرثیے کا کوئی بند نہیں ہے (کم سے کم مجھے نظر نہیں آیا) یہ منظومات غالباً خاص اسی کتاب کے لیے کہے گئے ہیں۔

اتنی ضخیم کتاب مرزا دبیر نے صرف ایک ہفتے میں مکمل کر لی اور اس ایک ہفتے میں وہ مجالس عزائم میں شرکت اور احباب سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کو امام حسین کا معجزہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

خدا سے دعا ہے کہ تقی عابدی صاحب کے ہاتھوں مرزا صاحب کے بقیہ آثار بھی اسی طرح مرتب ہو کر آجائیں۔ یہ اردو ادب، رٹائیات اور مرزا دبیر کی بڑی خدمت ہوگی۔